



سوال

غسل جنابت کے مسائل

جواب



السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ!

- 1- کیا کپڑے کے اوپر سے عضو تناسل اندر کرنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے؟
- 2- اگر عضو تناسل سے تھوڑی مقدار میں منی خارج ہو اور مکمل فارغ نہ ہو یعنی پھر بھی شہوت ہو کیا اس سے غسل واجب ہوتا ہے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیح السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!  
الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

- 1- جب مرد اپنی بیوی سے ہم بستری کرے اور اپنے آہ تناسل کو اس کی اندام نہانی میں داخل کر دے خواہ حشفہ ہی کو داخل کرے یا زیادہ حصے کو تو اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ دخول کپڑے کے ساتھ ہو یا بغیر کپڑے کے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حدیث نبوی ﷺ ہے:

«إِذَا غَسَّ بَيْنَ شُحْبَتَيْ الْأَرْبَعِ قَمِيحًا فَغَسَّ وَغَبَّ الْفُضْلُ وَإِنْ لَمْ يَنْزِلْ» (بخاری: 291)

- ”جب وہ اس کی چاروں شانوں کے درمیان بیٹھے اور اس کے ساتھ جماع کے لیے کوشش کرے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال نہ بھی ہو۔“
- 2- شہوت کے ساتھ منی کے اخراج سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ وہ تھوڑی ننکلی ہو یا زیادہ۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ کی حدیث مبارکہ ہے:

«الْمَاءُ مِنْ الْفَأْبِ» (مسلم: ۳۳۳)

”پانی کا استعمال پانی نکلنے سے ہے۔“

مزید تفصیل کے لئے فتویٰ نمبر (1028) پر کلک کریں۔

ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

فتویٰ کمیٹی

محدث فتویٰ